

Chapter - 11

A GREAT VIRTUE (عظیم نیکی)

Learning Outcomes: تعلیمی حصول

After completing this lesson, the students will be able to:

- recognize that text comprises a group of paragraphs that develop a single idea

یہ سبق مکمل کر کے طلباء اس قابل ہوں گے کہ یہ پہچان لیں گے کہ عبارت پیرا گرافوں کے گروپ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو ایک ہی خیال کو بڑھاتے ہیں

- analyze story elements
- retell story sequentially
- ask and express opinions and emotions
- identify adjectives

کہانی کے عناصر کا تجزیہ کر سکیں
ترتیب سے کہانی دوبارہ بنا سکیں
آرا اور جذبات پوچھ سکیں اور اظہار کر سکیں
اسم صفت کی پہچان کر سکیں

Pre-reading: سبق پڑھنے سے قبل

1. Can anyone share any good deed which he/she has done?

کیا کوئی شخص کسی کے نیک عمل سے حصہ لے سکتا ہے؟

Ans. No, not at all.

نہیں ہرگز نہیں۔

2. How should we acknowledge the people who help us? ہم ان لوگوں کو کس طرح احترام دیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں؟

Ans. We should regard their deeds.

ہمیں ان کے کاموں کا احترام کرنا چاہئے۔

For the Teacher: استاد کے لیے

- Help the students imagine a terrible situation because of storm.

طوفان کی وجہ سے کسی خوفناک صورت کا تصور کرنے میں طلباء کی مدد کریں۔

- Focus must be on motivating students to learn to do good in every situation.

توجہ بچوں کو تحریک دینے پر ہونی چاہئے کہ وہ ہر حال میں نیکی کریں۔

TEXT:

Once there was a holy نیک man who lived in a forest جنگل. He lived there all alone in a small hut چھوٹی سی گھر. He was a very kind نرم دل and noble شریف man. He always liked to help others.

ایک دفعہ ایک نیک آدمی تھا جو ایک جنگل میں رہتا تھا۔ وہ وہاں ایک چھوٹی سی گھر میں تنہا رہتا تھا۔ وہ بڑا مہربان اور شریف انسان تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتا تھا۔

Words	Pronunciation	Synonyms	Antonyms			
Holy(adj)	/'həʊ.li/	ہولی	pious	نیک	sinner	گناہ گار
Forest(n)	/'fɒr.ɪst/	فاریسٹ	woods	جنگل	plain	ہموار میدان
alone(adj)	/ə'ləʊn/	آلون	separate	تنہا	in company	محفل میں
Hut(n)	/'hʌt/	ہٹ	cabin	چھوٹی سی گھر	house	مکان
Kind(adj)	/'kaɪnd/	کائینڈ	compassionate	مہربان	unkind	نامہربان
Noble(adj)	/'nəʊ.bl/	نوبل	great	عظیم، شریف	wicked	بدعاش
Help(v)	help/	ہیلپ	assist	مدد کرنا	tease	تک کرنا

One night there came a terrible خوفناک storm طوفان in the forest جنگل, followed by the heavy شدید rain. The holy نیک man was busy in his work when he heard a knock at the door. He opened the door and there stood before him a gentleman شریف آدمی who spoke to him thus; "Sir, I am a hunter شکاری.

ایک رات جنگل میں خوفناک طوفان آیا جس کے بعد زبردست بارش آگئی۔ نیک آدمی اپنے کام کاج میں مصروف تھا جب کہ اس نے دروازے پر دستک سنی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک شریف آدمی کھڑا تھا جو اس سے یہ مخاطب ہوا "جناب میں شکاری ہوں۔ میں شکار کرنے جنگل آیا تھا لیکن اس طوفان اور شدید بارش کی وجہ سے شکار کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔

I came to the forest to hunt شکار, but because of this storm and the heavy rain it is not possible ممکن for me to hunt, I cannot go back either بھی. I am looking for shelter پناہ. I shall be grateful ممنون if you could let me spend گزار the night here."

میں واپس بھی نہیں جاسکتا۔ میں پناہ گاہ کی تلاش میں ہوں۔ اگر آپ مجھے رات یہاں گزارنے دیں تو میں آپ کا ممنون ہوں گا۔"

What do you understand by hesitation ?

Ans. It means doubt or reluctance.

تذبذب سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟
اس کا مطلب شک یا تاہل ہے۔

Words	Pronunciation		Synonyms		Antonyms
Terrible(adj)	/'ter.ə.bl/	ٹیریبل	horrible	خوفناک	لکاسا
Storm(n)	/'stɔ:m/	سٹارم	tempest	طوفان	سکون
Follow(v)	/'fɔ:l.əʊ/	فالو	come after	بعد آنا	پہلے آنا
Heavy(adj)	/'hev.i/	ہیوی	horrible	زبردست	لکاسا
Knock(n)	/'nɒk/	ٹاک	bang, smash	دستک	خاموشی
Gentleman(n)	/'dʒen.tl.mən/	جینٹلمین	greatman	شریف آدمی	برا آدمی
Hunter(n)	/'hʌn.tər/	ہنٹر	hunter	شکاری	چھوڑنا
Hunt(v)	/'hʌnt/	ہنٹ	kill	شکار کرنا	ناممکن
Possible(adj)	/'pɒs.ə.bl/	پوسبل	feasible	ممکن	ناممکن
Look for(v)	/'lʊk /'fɔ:r/	لک فار	search	تلاش کرنا	گم کرنا
Shelter(n)	/'ʃel.tər/	شیلٹر	refuge	پناہ	خطرہ
Grateful(adj)	/'ɡreɪt.fəl/	گریٹ فیل	obliged	شکر گزار، ممنون	ناشکرا
Let(v)	/'let/	لیٹ	allow	اجازت دینا	منع کرنا
Spend(v)	/'spend/	سپنڈ	lead	گزارنا	بچانا

The pious پارسا old man without any hesitation ہتکچاہٹ asked him to step in. He gave him a towel to dry himself. He then gave him a cup of hot milk to drink.

The hunter looked around. It was a small hut with one small bed. Only one person could sleep on it.

"Sir, this is a very small hut and there is hardly بشکل room for two. How are we going to spend the night here, the two of us?" said the hunter.

The pious old man said, "You are very simple سادہ. True, this hut is small, very small indeed درحقیقت, but if one has the will one can manage گزارہ کر."

نیک بوڑھے آدمی نے بغیر کسی ہتکچاہٹ (تاخیر) کے اسے اندر آنے کا کہا۔ اس نے اسے تولیہ دیا کہ خود کو خشک کر لے۔ پھر اس نے پینے کے لیے اسے گرم دودھ کا کپ دیا۔ شکاری نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ چھوٹی سی چھوٹی تھی جس میں ایک چھوٹا سا بستر تھا۔ اس پر صرف ایک شخص سو سکتا تھا۔

"جناب یہ چھوٹی تھی تو بہت چھوٹی سی ہے اور اس میں بشکل ہی دو اشخاص کے لیے جگہ ہے۔ ہم دونوں کس طرح یہاں رات گزاریں گے؟" شکاری نے کہا۔

نیک بوڑھے آدمی نے کہا "آپ بہت سادہ ہیں یہ سچ ہے کہ یہ چھوٹی تھی بہت چھوٹی درحقیقت بہت ہی چھوٹی ہے۔ لیکن اگر ارادہ ہو تو انسان گزارہ کر سکتا ہے۔"

Words	Pronunciation		Synonyms		Antonyms
Hesitation(n)	/'hez.ɪ'teɪ.ʃən/	ہزیٹیشن	delay	ہتکچاہٹ/تذبذب	تیزی
Step in(v)	/'step in/	سٹیپ ان	come in	اندر آنا	باہر جانا
Dry(v)	/'draɪ/	ڈرائے	clean	خشک کرنا	گیلا کرنا
Around(adv)	/'ə'raʊnd/	ارائونڈ	here and there	ارد گرد	سیدھا
Small(adj)	/'smɔ:l/	سماں	little	چھوٹی	بڑی
Hardly(adv)	/'hɑ:d.li/	ہارڈلی	scarcely	بشکل	آسانی سے
Pious(adv)	/'paɪ.əs/	پائس	holy	نیک	بد معاش

Simple(adj)	/ˈsɪm.pəl/	سہیل	plain	سادہ	clever	چالاک
Indeed(adv)	/ɪnˈdiːd/	ان ڈی ڈی	certainly	یقیناً	doubtfully	شک سے
Will(n)	/wɪl/	دل	intention	ارادہ		
Manage(v)	/ˈmæn.ɪdʒ/	منجھ	adjust	گزارہ کرنا	mismanage	بدانتظام کرنا

The hunter was satisfied مطمئن with this answer. He started drinking his milk. Another knock at the door. This time even louder. The pious old man opened the door. There was a farmer asking for shelter پناہ.

"Sir, I am a farmer کسان, but in this heavy rain there isn't a thing that I can do. I can't even go home. Could you please give me shelter for the night?"

The pious old man allowed اجازت دینا the farmer to come in. He offered پیش کرنا him a glass of milk.

Now there were three men, instead of بجائے two, in that small hut. The farmer was surprised حیران. He said, "Sir this is a small room. You already پہلے ہی have a guest, how are we going to spend the night in this small hut?"

اس جواب سے شکاری مطمئن ہو گیا۔ اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ اب کی بار زیادہ زور سے۔ نیک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا ایک کسان پناہ مانگ رہا تھا۔
"جناب میں کسان ہوں لیکن اس شدید بارش میں میں کوئی کام نہیں جو میں کر سکوں۔ میں گھر بھی نہیں جاسکتا۔ کیا آپ ازراہ کرم رات کے لیے مجھے پناہ دے دیں گے؟"
نیک بوڑھے آدمی نے کسان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس نے اس کو دودھ کا گلاس پیش کیا۔ اب اس چھوٹی سی جھونپڑی میں دو کی بجائے تین آدمی تھے۔ کسان حیران تھا اس نے کہا جناب یہ چھوٹا سا کمرہ ہے۔ آپ کے پاس پہلے ہی مہمان ہے، ہم اس چھوٹی سی جھونپڑی میں کس طرح رات گزاریں گے؟"

Words	Pronunciation	Synonyms	Antonyms			
Satisfied	/ˈsæt.ɪs.faɪ/	سپیس فائینڈ	pleased	مطمئن	dissatisfied	غیر مطمئن
Answer(n)	/ˈɑːn.sər/	آنسر	reply	جواب	question	سوال
Louder(adj)	/laʊd/	لاؤڈر	harder	زیادہ زور سے	milder	زیادہ نرم
Farmer(n)	/ˈfɑː.mər/	فارمر	cultivator	کاشت کار، کسان	danger	خطرہ
Shelter(n)	/ˈʃel.tər/	شیلٹر	refuge	پناہ گاہ	light	ہلکی سی
Heavy(adj)	/ˈhev.i/	ہیوی	terrible	شدید	forbid	منع کرنا
Allow(v)	/əˈlaʊ/	الاء	permit	اجازت دینا	get	حاصل کرنا
Offer(v)	/ˈɒf.ər/	آفر	give	پیش کرنا		
Instead(preposition)	/ɪnˈsted/	انسٹیڈ	in lieu	کی بجائے		
Surprised(v)	/səˈpraɪzd/	سرپرائز	wondered	حیران ہوا	pleased	خوش ہوا
Already(adv)	/ɔːlˈred.i/	آل ریڈی	before this	پہلے ہی	later on	بعد ازاں
Spend(v)	/spend/	سپنڈ	lead	گزارنا		

The pious old man told the farmer that in case they could not sleep, they could at least کم از کم stand all night.

The weather موسم outside was becoming more harsh تند. Someone was knocking very hard at the door again. The pious old man moved to open the door. The farmer however تاہم asked him not to do so. "There is hardly any place for the three of us in this room. How could we accommodate جگہ دینا and generous سخی more people?" The old man was very kind نرم دل. He was always ready to share حصہ دار whatever he had with others. He said to the farmer, "The weather was bad outside باہر. You wanted shelter. You knocked at my door and I opened it for you.

بوڑھے نیک آدمی نے کسان سے کہا اگر سو نہ سکے تو وہ کم از کم تمام رات کھڑے تو ہو سکیں گے۔ باہر موسم مزید سخت ہو رہا تھا۔ دوبارہ کوئی شخص دروازے پر بڑے زور سے دستک دے رہا تھا۔ نیک بوڑھا دروازہ کھولنے گیا۔ کسان نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ اس کمرے میں ہم تین کے لیے بیشکل ہی جگہ ہے۔ ہم مزید لوگوں کو کیسے سما سکیں گے؟ بوڑھا بڑا مہربان اور سخی تھا۔ وہ لوگوں کو بیشکل میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہر وقت دوسروں کے ساتھ بانٹنے کو تیار رہتا جو کچھ اس کے پاس ہوتا۔ اس نے کسان سے کہا باہر موسم خراب تھا آپ کو پناہ چاہیے تھی۔ آپ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے تمہارے لیے اسے کھول دیا۔

Just imagine تصور کرو what might have happened if I had not allowed you in". The knocking دستک at the door was still going on.

ذرا تصور کرو اگر میں تمہیں اندر نہ آنے دیتا تو کیا ہوتا؟ دروازے پر دستک اب بھی ہو رہی تھی۔ بوڑھے نے کسان کی بات مزید سننے کا انتظار نہ کیا اور دروازہ کھولنے کے لیے لپکا۔

The old man didn't wait to hear the farmer any more and rushed لپکا to open the door.

Why the pious old man let everybody entered that small hut?
Ans. He was kind. He could not see others in trouble.

بوڑھے نیک آدمی نے اس چھوٹی چھوٹی ہر شخص کو اندر آنے کی اجازت کیوں دے دی؟ وہ مہربان تھا۔ دوسروں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔

Words	Pronunciation		Synonyms		Antonyms	
In case(n)	/ɪn.keɪs//	ان لیس	if	اگر	but	لیکن
At least(adv)	/æt./li:st/	ایٹ لیٹ	the minimum	کم از کم		
Harsh(adj)	/hɑ:ʃ/	ہارش	hard	سخت	mild	نرم
Move(v)	/mu:v/	موو	start	جانا۔ حرکت کرنا	stay	رکنا
Accomodate	/ə'kɒm.ə.deɪt/	اکاموڈٹ	adjust	سامانہ۔ جگہ دینا	push out	باہر دھوکا دینا
Generous(adj)	/'dʒen.ər.əs/	جزس	large-hearted	فیاض	stingy	تنبھوس
Share(v)	/'ʃeər/	شیر	give	باشنا، حصہ دار بنانا	get	لینا
Outside(prep)	/'aʊt'saɪd/	آؤٹ سائڈ	away	باہر	inside	اندر
Imagine(v)	ɪ'mædʒ.ɪn/	ایمجن	visualize	تصور کرو	work	کام کرو
Happen(v)	/'hæp.ən/	ہپن	occur	واقع ہونا، ہونا		
Wait(v)	/'weɪt/	ویٹ	delay	انتظار کرنا	move	جانا
Rush(v)	/'rʌʃ/	رش	run	لپکنا	stay	تھہرنا

This time there was a mother with her two small kids بچے, shivering کانپنا in the cold.

اب کی بار دو چھوٹے بچوں سمیت ایک ماں تھی جو سردی سے کانپ رہے تھے۔

The old man asked them to come in at once and said to the farmer, "Now see what would have happened to the little kids بچے in the cold, stormy طوفانی night".

بوڑھے نے فوراً انہیں اندر آنے کو کہا اور کسان سے کہا "اب دیکھو اس سرد طوفانی رات میں چھوٹے بچوں کا کیا بنتا۔" کسان کو احساس جرم ہوا اور اس نے نیک آدمی سے معذرت کی "جناب مجھے بہت افسوس ہے۔ میں خود غرض تھا۔ ازراہ کرم مجھے معاف کر دیں۔ میں دوبارہ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کروں گا۔"

The farmer felt guilty قصور وار and apologized کی معذرت to the holy man. "I am very sorry, Sir. I was selfish خود غرض. Please forgive معاف کرو me. I'll never say such things again." The whole crowd ہجوم spent the stormy night standing in that little hut. They chatted باتیں کرنا about all sorts اقسام of things and praised تعریف کرنا the kindness مہربانی of their host میزبان.

پورے ہجوم نے وہ طوفانی رات اس چھوٹی سی چھوٹی ہڑی میں گھڑے ہو کر گزاری۔ وہ تمام قسم کی چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے اور اپنے میزبان کی مہربانی کی تعریف کرتے۔ بوڑھے نیک آدمی نے اپنائے جانے کے لیے عظیم نیکی کی ایک مثال قائم کر دی۔

The pious old man set an example of a great virtue نیکی to be followed اپنا.

کسان کو احساس جرم کیوں ہوا؟ اسے احساس جرم ہوا کیونکہ اس نے خود غرضی دکھائی تھی۔

Why did the farmer feel guilty?
Ans. He felt guilty because he had showed selfishness.

کسان کو احساس جرم کیوں ہوا؟ اسے احساس جرم ہوا کیونکہ اس نے خود غرضی دکھائی تھی۔

Words	Pronunciation		Synonyms		Antonyms	
Kids(n)	/'kɪdz/	کڈز	children	بچے		
Shiver(v)	/'ʃɪv.ər/	شور	quiver	کانپنا	satisfied	مطمئن
Stormy(adj)	/'stɔ:mi/	شاری	dangerous	طوفانی	pleasing	خوش کن
Guilty(adj)	/'gɪl.ti/	گھٹی	criminal	مجرم	pious	نیک
Apologize(v)	/'əpɒl.ə.dʒaɪz/	اپولو جائز	regret	معذرت کرنا	order	علم دینا

11. A Great Virtue

Sorry(adj)	/'sɒr.i/	سوری	regretful	الوسوس	happy	خوش
Selfish(adj)	/'sel.fɪʃ/	سیل فیش	self-seeking	خود غرض	selfless	بے غرض
Forgive(v)	/'fɔ'gɪv/	فارگو	let go	معاف کر دینا	punish	سزا دینا
Never(adv)	/'nev.ə/	نہیں	not over	کبھی نہیں	ever	کبھی
Whole(adv)	/'həʊl/	ہول	all	تمام	less	قدرے تھوڑا
Crowd(n)	/'kraʊd/	کراؤڈ	assemblage	اجہوم	individual	فرد
Chat(v)	/'tʃæt/	چٹ	talk	باتیں کرنا	silent	خاموش
Sorts(adj)	/'sɔ:ts/	سارٹس	kinds	اقسام	condemn	ذمت کرنا
Praise(v)	/'preɪz/	پرائز	appreciate	تعریف کرنا	harshness	تختی
Kindness(n)	/'kaɪnd.nəs/	کائنڈنس	affection	مہربانی	guest	مہمان
Host(n)	/'həʊst/	ہوسٹ	server	میزبان	end	ختم کرنا
Set(v)	/'set/	سیٹ	fix	قائم کرنا	vice	
Example(n)	/'ɪg'zɑ:m.pl/	ایز امپل	model	مثال	reject	رد کرنا
Virtue(n)	/'vɜ:..tju:/	ورچو	goodness	نیکی		
Follow(v)	/'fɒl.əʊ/	فالو	adopt	اپنانا		

GLOSSARY: فرہنگ

to step in:	اندر آنا	to come in
apologize:	معذرت کرنا	express regret for wrong doings
accommodate:	سامانہ	fit in, provide space
harsh:	سخت	unpleasantly rough, severe
shelter:	پناہ	place for temporary protection
shivering:	کانپنا	shake slightly and uncontrollably
terrible:	خوفناک	extremely bad
hesitation:	انکلیا ہٹ	doubt or reluctance

ACTIVITIES (سرگرمیاں)

A. Answer the following questions.

1. Where did the old man live?

Ans. The old man lived in a forest.

2. Who first knocked at his door in the stormy night?

Ans. First of all, a hunter knocked at his door in the stormy night.

3. How many people were in the hut during that stormy night?

Ans. A hunter, a farmer, a woman, two children and the holy man were in the hut. They were six people.

4. Did the old man refuse to give shelter to anyone?

Ans. No, the old man did not refuse to give shelter to anyone.

5. How did the people spend the stormy night in that small hut?

Ans. The people spent the stormy night in that small hut all standing.

اس طوفانی رات میں سب لوگوں نے کھڑے ہو کر رات گزاری۔

درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔

یوڑھا آدی کہاں رہتا تھا؟

یوڑھا آدی جنگل میں رہتا تھا۔

طوفانی رات میں سب سے پہلے شکاری نے اس کے دو دروازے پر دستک دی۔

اس طوفانی رات کو جھونپڑی میں کتنے لوگ تھے؟

ایک شکاری، ایک کسان، ایک عورت، دو بچے اور نیک آدی جھونپڑی میں تھے وہ تمام چھ لوگ تھے۔

کیا یوڑھے نے کسی کو پناہ دینے سے انکار کیا؟

نہیں یوڑھے نے کسی کو پناہ دینے سے انکار نہیں کیا۔

لوگوں نے اس جھونپڑی میں کس طرح طوفانی رات گزاری؟

اس طوفانی رات میں سب لوگوں نے کھڑے ہو کر رات گزاری۔

B. Fill in the blanks with preposition.

1. They spent the night standing _____ that small hut. حرف جار سے خالی جگہ پر کریں۔
2. The pious old man moved _____ open the door. انہوں نے کھڑے ہو کر اس چھوٹی سی جھونپڑی میں رات گزاری۔
3. Who is knocking _____ my door? بوڑھا نیک آدمی دروازہ کھولنے کے لیے گیا۔
4. You would have been _____ trouble if I had not helped you. میرے دروازے پر کون دستک دے رہا ہے؟
5. The old man asked the hunter _____ step in. اگر میں آپ کی مدد نہ کرتا تو آپ مشکل میں ہوتے۔

Ans: 1.in 2. to 3. at 4. in 5. to

C. Choose the Correct Option.

- i. Old man gave the hunter a cup of: درست انتخاب پر نشان لگائیں
a. tea b. milk c. coffee d. juice
- ii. How many people could sleep in the hut? a. one b. two c. three d. four
- iii. Who was the second person to knock at the door?
a. the farmer b. the hunter c. the boy d. the woman
- (iv) Who stopped the old man from opening the door?
a. the hunter b. the farmer c. the woman d. no one

Ans: i.b ii.a iii. a iv. b

D. Write down a few good deeds which you can do in your everyday life. Example: I can help someone to cross the road.

- i. I can help poor students by sharing my books.
- ii. I can help the poor people with money.
- iii. I can lead the blind where he wants to go.
- iv. I can help my younger brothers build up their character.
- v. I can help the weak students in study.

E. Make meaningful words beginning with the last letter of each word. hesitation, help, virtue, pious, boy

Example: 'cat'. The word ends in T. Your word that begins with T is 'toy'. The last letter in 'toy' is 'y'. Your next word must begin with y. It is 'yellow'. 'Yellow' ends in W. The word that begins with 'w' is 'water'. Start with activity.

- Ans.1. **HESITATION:** nation, notion, novel, lead, deal, leak, knife, element, theory, you, urn, need, dream, man, needle, equipment, thought, they, yacht, that, this, story, young, go, out, treat, tell, leader, read, deal, learn, nose, equal, light, there, elephant, teach, honey, yellow..... مزید الفاظ خود بنائیں
2. **HELP:** pill, leak, deal, let, tell, learn, novel, light, turn, bring, tube, extra, animal, ladel, lurch, hot, thought, thank, know, work, knowledge, elite, eloquent, مزید الفاظ خود بنائیں
3. **VIRTUE:** egg, gell, learn, need, deal, lead, dream, meet, teach, heat, tip, push, hall, leader, مزید خود بنائیں
4. **PIOUS:** sheep, push, hot, teacher, heat, tell, lead, dream, mean, need, deal, learn, noon, name, elephant, thing, knowledge, egg, general, local, light, they, yellow, world, deal, lead, مزید خود بنائیں
5. **BOY:** yearn, noon, need, death, help, please, eat, teach, hoot, though, hill, little, enjoy, yell, luck, killer, reach, heap, peel, lick, knowledge, elite, early, yoke. مزید خود بنائیں

11. A Great Virtue

424

According To Paper Pattern of PEC & PEF

F. Underline the adjectives from the story, 'A Great Virtue'. کہانی "عظیم نیکی" میں سے اسامہ صفت خط کشیدہ کریں۔
Ans. Holy, alone, small, kid, noble, terrible, heavy, possible, grateful, pious, old, hot, simple, true, louder, harsh, hard, generous, bad, stormy, guilty, sorry, selfish, please, whole, little, kindness, great

G. Identify the following elements of the story, 'A Great Virtue'.

کہانی "عظیم نیکی" کے درج ذیل عنصر کی شناخت کریں۔

- Setting: It is a stormy night. It is a desert land where the story takes place.
- Character: There are six characters in the story. They are the holy man, a hunter, a farmer, a woman, two children.
- Plot: A hunter seeks shelter in the holy man's hut. Then a farmer comes there. Seeing the little room, he is surprised. Then, there is knocking at the door. The farmer forbids the holy man to open the door. But the man opens the door. There is a woman with two children. All spend the night standing.
- Theme: The central idea of the story is to be helpful to others not being selfish but sacrificing for others.

H. Write the story on the moral "Do good, have good".

کر بھلا ہو بھلا پر ایک اخلاقی کہانی لکھیں۔

DO GOOD, HAVE GOOD

Once upon a time, there was a slave. His master was very cruel (خالم). He tortured (زیرت دینا) him much. One day, the slave ran to a jungle. He hid (چھپنا) himself in a cave. He saw a lion there. It was moaning (کراہنا) with pain (درد). The slave saw a thorn (کانٹا) in its paw. He took out (نکال دینا) the thorn. The lion felt relieved (سکون) and went away. After a few days, the slave was arrested (گرفتار ہونا). He was thrown before a hungry lion as a punishment (سزا). The lion rushed (حملہ کیا) at him. But instead (کی بجائے) of eating him, he began to lick (چاٹنا) his feet. It was the same lion that had met the slave in the jungle. Now it had recognized its rescuer (نجات دہندہ). When the master came to know of it, he set him free.

I. Oral Communication Skills: زبانی روابط کی مہارتیں

Have conversation with your fellow student about helping others.

اپنے ساتھی طالب علم کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنے کے بارے میں گفتگو کریں۔

For the Teacher:

- Help the students build their vocabulary through the activity 'word from word'.

سرگرمی "لفظ سے لفظ" کے ذریعے ذخیرہ الفاظ بنانے میں طلباء کی مدد کریں۔

- Help the students identify the elements of the story.

کہانی کے عناصر کی شناخت کریں۔